

to bring out مُصَدَّر (Verbal noun)

بِسْمِ اللّٰهِ

He brought out. (108) أَخْرَجَ

باہر نکالنا إخراج

خ ر ج

اس نے باہر نکالا VT-4

Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.

Starting verb in a verbal sentence. when the subject is SING. or PLU.

Attached Pronouns	Imperfect Tense فِعْلٌ مُضَارِعٌ	Past Tense فِعْلٌ مَّاضِيٌّ	Detached Pronouns
أَ - هُوَ	He brings out. He will bring out. وہ باہر نکالتا ہے وہ باہر نکالے گا	He brought out/ took out. اس نے باہر نکالا	هُوَ
أَنْتَ - هُمَا	You two bring out/ will bring out. يُخْرِجَانِ	They two brought. أَخْرَجَا	هُمَا
أَنْتُمْ - هُمْ	They bring out. They will bring out. وہ باہر نکالتے ہیں وہ باہر نکالیں گے	They all brought out. انہوں نے باہر نکالا	هُمْ
أَنْتَ - كَ - سَ + مُضَارِعٌ	You bring out. You will bring out. آپ باہر نکالتے ہیں آپ باہر نکالیں گے	You brought out. آپ نے باہر نکالا	أَنْتَ
أَنْتُمْ - كُمْ - سَوْفَ + مُضَارِعٌ	You all bring out/ will bring out. يُخْرِجُونِ	You two brought. أَخْرَجْتُمَا	أَنْتُمْ
أَنْتُمْ - كُمْ - سَوْفَ + مُضَارِعٌ	You all bring out/ will bring out. آپ سب باہر نکالتے ہیں یا نکالیں گے	You all brought out. آپ سب نے باہر نکالا	أَنْتُمْ
أَنَا - نِي (with verb)	I bring out. I will bring out. میں باہر نکالتا ہوں میں باہر نکالوں گا	I brought out. میں نے باہر نکالا	أَنَا
أَنَا - نَا	We bring out. We will bring out. ہم باہر نکالتے ہیں ہم باہر نکالیں گے	We brought out. ہم نے باہر نکالا	نَحْنُ
فِعْلٌ - جَرٌّ	يَتَأَنَّ	وَأَتَمَّتْ تَأَنَّا	

near future:  
سَ + مُضَارِعٌ

distant future:  
سَوْفَ + مُضَارِعٌ

near past:  
قَدْ + مَّاضِيٌّ

Past continuous:  
كَانَ + مُضَارِعٌ

Negative نَهْيٌ	Imperative أَمْرٌ	
Don't bring out! مت باہر نکال !	Bring out! باہر نکال !	Singular
Don't (you two) bring out! لَا تُخْرِجَانِ	Bring out (you two)!	Dual
Don't (you all) bring out! مت باہر نکالو !	Bring out (you all)!	Plural

Passive participle اسم مفعول	Active participle اسم فاعل	
One who is brought out وہ جس کو باہر نکالا گیا	One who brings out باہر نکالتے والا	Singular
مُخْرَجَانِ، مُخْرَجَيْنِ	مُخْرَجَانِ، مُخْرَجَيْنِ	Dual
Those who are brought out وہ جن کو باہر نکالا گیا	Those who bring out باہر نکالتے والے	Plural
مُخْرَجُونَ، مُخْرَجِينَ	مُخْرَجُونَ، مُخْرَجِينَ	

مَجْهُول  
Passive Voice

(it, he) is being brought out باہر نکالا جاتا ہے	يُخْرِجُ	(it) is brought out باہر نکالا گیا	أَخْرَجَ	هُوَ
---	----------	---------------------------------------	----------	------

مَجْهُول  
Passive Voice